

کھلی جگہ میں
آگ جلانے سے متعلق
قانونی ضمنی
محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں



کھلی جگہ میں آگ جلانے سے متعلق قانون ضمنی

محفوظ رہیں اور آگاہ رہیں



کھلی جگہ میں آگ
جلانے سے متعلق نظر
ثانی شدہ ضمنی قانون
پر عمل کر کے یہ یقینی
بنائیں کہ باہر آگ جلانے
کا عمل محفوظ ہو

ضمنی قانون 2003-0049

کس قسم کی آگ کے لئے اجازت نامے مطلوب ہیں؟

- کھانا پکانے والی آگ اور باہر آگ جلانے کیلئے بنے مقامات (چمنیاں) کی آگ کے علاوہ کھلی جگہ میں جلائی جانے والی سبھی آگ

کس قسم کی آگ کے لئے اجازت نامے مطلوب نہیں ہیں؟

- باہر آگ جلانے کیلئے بنے مقامات (چمنیاں) کی آگ
- کھانا پکانے والی آگ

کھلی جگہ میں کوئی آگ جلانے کی اجازت نہیں ہے:

- اگر اس سے عوام کو پریشانی ہوتی ہے
- سٹی آف مسی ساگا پر محیط دھند کے انتباہات کے دوران

دھند کے انتباہات والے دنوں کے لئے اجازت ناموں میں توسیع اس اجازت نامہ کی

پشت پر درج نمبر پر کال کر کے حاصل کی جاسکتی ہے۔

دھند کے انتباہات والے دنوں کی نشاندہی اونٹاریو ایئر کوالٹی ویب سائٹ پر

www.airqualityontario.com پر کی گئی ہے۔

کھلی جگہ میں آگ جلانے کے اجازت نامہ کے ضوابط

کھلی جگہ میں آگ جلانے سے متعلق ضمنی قانون میں مذکور ہے کہ اجازت نامہ کا حامل کوئی فرد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان (دن کے اوقات میں) کھلی جگہ میں آگ جلا سکتا ہے اگر:

- اگر اس سے پریشانی نہیں ہوتی ہے
- دھند کا انتباہ لاگو نہیں ہے
- آگ کی مستقل طور پر نگرانی رکھی جاتی ہے
- آگ جلتے وقت آگ بجھانے کے مناسب ذرائع دستیاب ہیں
- یہ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی لائن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر آتش گیر اشیاء سے 50 میٹر سے زیادہ دوری پر ہے
- اگر سطح پر کوئی آتش گیر غلاف ہے تو وہ کم از کم 5 میٹر کی دوری پر ہے
- ہوا کی رفتار 24 کلو میٹر فی گھنٹہ سے کم ہے
- اس کا رقبہ 1 مربع میٹر سے کم ہے
- اس کی اونچائی 1 میٹر سے زیادہ نہیں ہے
- درخواست کرنے پر اجازت نامہ کی ایک کاپی دیکھنے کیلئے سائٹ پر دستیاب ہے

گھر سے باہر بنے ہوئے آگ کے مقامات

کوئی چمنی طلوع آفتاب سے رات 11 بجے کے اگر:

- اس سے دشواری پیدا نہیں ہوتی ہے
- دھند کا انتباہ لاگو نہیں ہے
- اس کا مالک باہر آگ جلانے کے وقت سے اس کے مکمل طور پر بجھ جانے کے وقت تک اس مقام کی مستقل نگرانی اور اس پر قابو رکھتا ہے
- یونٹ کے استعمال ہونے کے دوران ایک قابل منتقلی آگ بجھانے والا آلہ یا باغیچے میں پانی دینے والا پائپ دستیاب ہے
- یہ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی لائن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر آتش گیر اشیاء سے 05 میٹر کی دوری پر ہے
- اسے غیر آتش گیر سطح پر رکھا گیا ہے جو یونٹ سے باہر اس یونٹ کی اونچائی کے مساوی چہت تک پھیلا ہوا ہے۔

کھانا پکانے والی آگ

کوئی فرد طلوع آفتاب سے رات 11 بجے کے بیچ اجازت نامہ کے بغیر کھانا بنانے والی آگ جلا سکتا ہے اگر:

- اس آگ سے پریشانی نہیں ہوتی ہے
- دھند کا انتباہ لاگو نہیں ہے
- اس کا مالک باہر آگ جلانے کے وقت سے اس کے مکمل طور پر بجھ جانے کے وقت تک اس مقام کی مستقل نگرانی اور اس پر قابو رکھتا ہے
- جس وقت آگ جل رہی ہو اس وقت آگے بجھانے کے مناسب ذرائع دستیاب ہیں
- یہ آگ کسی بھی ڈھانچہ، مکان کی لائن سڑک، اوپر سے گزرنے والے تار یا دیگر آتش گیر اشیاء سے 50 میٹر کی دوری پر ہے
- آگ سے 5 میٹر کے اندر سطح پر کوئی آتش گیر غلاف نہیں ہے
- ہوا کی رفتار 24 کلو میٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہے
- آگ جسامت اور اونچائی میں 0.3 میٹر سے زیادہ نہیں ہے

جرم اور نفاذ قانون

فائر فائٹر فوری طور پر آگ بجھانے کا حکم دے سکتا ہے اگر وہ آگ:

- اس ضمنی قانون کے مطابق نہیں جلائی گئی ہے
- فائر فائٹر کے ذریعہ معائنہ کیے جانے پر یہ تعین کیا جاتا ہے کہ وہ سلامتی کے خطرے یا تشویش کا مستوجب بن سکتی ہے

اس ضمنی قانون کے تحت حاصل شدہ اجازت نامہ فائر چیف کے ذریعہ کالعدم قرار دیا جاسکتا ہے اگر اجازت نامہ کا حامل فرد اجازت نامہ اور / یا اس ضمنی قانون کے کسی دیگر ضوابط کے تقاضوں کی تعمیل نہیں کرتا ہے۔ اس ضمنی قانون کے تحت کسی جرم کا سزاوار قرار دیے جانے والے فرد پر پروونشیل آفینسز ایکٹ R.S.O. 1990, c.P.33، ترمیم شدہ کے ضوابط کے مطابق جرمانہ اور ہرجانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔

اجازت نامے

کھلی جگہ پر آگ جلانے سے متعلق اجازت نامے سوک سنٹر دوسری منزل فائر پریوینشن آفس سے یا فائر ہیڈ کوارٹرز 15 فیٹر ویو روڈ سے صبح 8:30 بجے اور شام 4:30 بجے کے درمیان ایک اجازت نامہ فارم مکمل کر کے اور اس سے وابستہ فیس ادا کر کے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

شناخت نامہ جیسے ڈرائیور کالاتسنس مطلوب ہے۔

فائر چیف عوامی سلامتی کے مفاد میں یا عوام الناس کی زحمت کو کم سے کم کرنے کے لئے کوئی اضافی تحفظاتی تقاضے عائد کر سکتے ہیں۔ خصوصی پروگراموں کی صورت میں، فائر چیف حالات اور صورتحال کی بنیاد پر اجازت ناموں کے ضمن میں کچھ ردوبدل کر سکتے ہیں۔

کرنے اور نہ کرنے والی چیزیں

کرنے والی چیزیں

- کھلی جگہ میں آگ جلانے کے لئے اجازت نامہ حاصل کریں
- یقینی بنائیں کہ آگ دیگر اشیاء یا عمارتوں سے 50 میٹر کی دوری پر ہو
- آگ جلاتے وقت اجازت نامہ کی ایک کاپی سائٹ پر دستیاب رکھیں
- آگ کے بجھ جانے تک وہیں رکے رہیں
- کھلی جگہ میں آگ جلانے سے متعلق ضمنی قانون کے تقاضوں پر عمل کریں

نہ کرنے والی چیزیں

- دھند کے انتباہات کے دوران آگ نہ جلائیں
- آگ کو لاوارث حالت میں نہ چھوڑیں
- کوڑا یا دیگر غیر لکڑی والی مصنوعات نہ جلائیں

رابطے کے نمبرز

مسی ساگا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

905-896-5908

فائر پریوینشن ڈویژن

905-615-4377

عوامی تعلیم

905-615-3777

انتظامیہ



MISSISSAUGA
Fire and Emergency Services
Leading today for tomorrow

معیاری انسداد آتش زدگی اور تعلیم کے
ذریعہ معاشرے کا تحفظ